



اونٹیریو کی حکومت نے 3 اپریل سے صوبہ بھر میں شٹ ڈاؤں کا اعلان کر دیا ہے

برامپٹن، آن (1 اپریل 2021) – آج اونٹیریو کی حکومت نے 3 اپریل 2021 سے صوبہ بھر میں شٹ ڈاؤں کا اعلان کر دیا ہے جو اونٹیریو بشمول ریجن آف پیل میں کم از کم چار ہفتوں تک لاگو رہے گا۔

حفاظتی اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں، مگر ان تک محدود نہیں:

- منظم شدہ ان ڈور عوامی تقریبات اور سماجی اجتماعات پر پابندی ہو گی؛ ایسے افراد جو اکیلے رہ رہے ہوں، انہیں دوسرے ایک گھرانے کے ساتھ اکٹھا ہونے کی اجازت ہو گی؛
- اوٹ ڈور منظم شدہ عوامی تقریبات یا سماجی اجتماعات کی گنجائش کو زیادہ سے زیادہ 5 افراد تک محدود رکھنا، ماسوائے ایک ہی گھرانے کے افراد (جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں) کے ساتھ اجتماعات؛
- ریٹیل کے تمام کاروباروں میں ذاتی طور پر خریداری کو محدود کر دیا گیا ہے، جس میں سپر مارکیٹوں، گروسری اسٹورز، کنوینینس اسٹورز، کسانوں کی ان ڈور مارکیٹس اور بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات فروخت کرنے والے دیگر اسٹورز کے لیے 50 فیصد تک کی گنجائش کی حد لاگو ہو گی اور اس کے علاوہ دیگر تمام ریٹیل کاروباروں بشمول باکس اسٹورز کے لیے 25 فیصد تک کی گنجائش کی حد لاگو ہو گی، جبکہ صحت عامہ اور جائے کار کے دیگر اقدامات بھی لاگو ہوں گے۔
- ذاتی نگہداشت کی سروسز بند رہیں گی؛
- ان ڈور اور اوٹ ڈور ڈائننگ ممنوع ہو گی۔ ریستورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں کو صرف ٹیک اوٹ، ڈرائیو تھرو اور ڈیلیوری کے ذریعے کام کرنے کی اجازت ہو گی؛
- ان ڈور اور اوٹ ڈور اسپورٹس اور تفریح و تندرستی (مثلاً جیم) جیسی سہولت گاہوں کا استعمال، انتہائی محدود استثناء کے ساتھ، ممنوع ہو گا؛
- ڈے کیمپس بند رکھنا ہوں گے؛ اور
- شادیوں، تجہیز و تکفین اور مذہبی خدمات، رسومات یا تقریبات میں ہر کمرے کی اندرونی گنجائش کو 15 فیصد تک محدود رکھنا ہو گا، اور بیرونی طور پر صرف اتنے افراد کی اجازت ہو گی جو آپس میں دو میٹر کا فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہوں۔ اس میں ان خدمات سے وابستہ سماجی اجتماعات شامل نہیں ہیں مثلاً ایسے استقبالے جن کی اندرونی مقامات پر اجازت نہیں ہے مگر بیرونی مقامات پر پانچ افراد تک کی اجازت ہو گی۔

چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے مطابق، رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے عمل کو کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، میڈیکل اپوائنٹمنٹس، کمیونٹی کے کمزور افراد کی مدد کرنے یا اپنے گھر کے ممبران کے ساتھ باہر ورزش جیسی ضروریات تک محدود رکھیں۔ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے آجرین کو اپنے ملازمین کو گھر سے کام کی اجازت دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔

سٹی کی سروسز اور سہولیات

سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں

سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں بالمشافہ سروسز کے لیے صرف بذریعہ اپوائنٹمنٹ کھلی رہیں گی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ جانے کی اجازت نہیں ہو گی۔ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/skiptheline

سٹی کے تفریحی مراکز

سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں عوام کے لیے بند رہیں گی اور ان ڈور پروگرام بھی تاحکم ثانی بند رہیں گے۔

ورچوئل پروگرامز

ورچوئل فٹنیس

رہائشیوں کو انسٹرکٹر کی نگرانی میں چلائی جانے والی ورچوئل فٹنیس کلاسوں میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے، جو 30 منٹ کی مفت براہ راست کلاسوں پر مشتمل ہوں گی۔



+55 ورکشاپس

برامپٹن کے ایسے رہائشی جن کی عمر 55 سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ اپنے گھر کے پرسکون ماحول سے مفت ورچوئل ورکشاپس کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ شرکاء کو ایک محفوظ اور منظم ماحول میں سماجی میل جول بڑھانے، نئی دوستیاں بنانے اور آن لائن روابط قائم کرنے کا موقع ملے گا۔

مشمول ورچوئل سرگرمیاں اور ورکشاپس

یہ سلسلہ معذوریوں اور استثنائی حالات کے حامل شرکاء کے لیے دلچسپ سرگرمیوں میں شامل ہونے، کچھ نیا سیکھنے اور اپنے ہم عمر افراد کے ساتھ دیرپا دوستی پیدا کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔

ورچوئل پروگراموں کی پیشکشوں، بشمول رجسٹر ہونے کے بارے میں مزید معلومات www.brampton.ca/recreation سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

گھر پر تفریح

آن لائن آرٹس اور کرافٹس ٹیوٹوریلز کے ذریعے گھر پر رہتے ہوئے بھی فعال اور وابستہ رہیں، رسائی 24/7 دستیاب ہے! اوریگیمی ہرٹس بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ گھر میں رہتے ہوئے وسیع اقسام کی سرگرمیوں تک رسائی [یہاں](#) سے حاصل کریں، جو برامپٹن ریکریٹیشن نے بہت محبت سے تیار کی ہیں۔

برامپٹن لائبریری

برامپٹن لائبریری اپنی چنگوآکوسی، فور کارنرز اور سپرنگ ڈیل شاخوں سے محدود حد تک سروس پیش کرے گی۔ کرب سائیڈ پک اپ کی سہولت سائزل کلارک، گورمیڈوز، ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج، ساؤتھ فلیچرز اور ساؤتھ ویسٹ شاخوں سے دستیاب رہے گی۔ اوقات کار، سیفٹی پروٹوکولز اور مواد کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات کے لیے [یہاں کلک کریں](#) لائبریری کی شاخوں کے اندر حالیہ طور پر مواد لے کر جانے، صرف ٹرانزیکشن کے مقصد کے تحت لائبریری کے کمپیوٹروں کا زیادہ سے ایک گھنٹہ روزانہ استعمال اور پرنٹنگ اور کاپی کرنے کی صرف محدود حد تک اجازت ہو گی۔ شاخوں میں مطالعہ کی جگہ دستیاب نہیں ہے اور کام یا مطالعہ کے لیے ذاتی ڈیوائسز کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ لائبریری کی تمام شاخوں سے مخصوص گریب 'این' گو بیگز لے جانے جا سکتے ہیں اور مواد کو 24 گھنٹے محفوظ اور آسان طریقے سے کسی بھی بیرونی ڈراپ باکس کے ذریعے واپس لوٹایا جا سکتا ہے۔ اضافی جرمانے تاحکم ثانی وصول نہیں کیے جائیں گے۔

لنکس

مزید جانیں:

- [سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس](#)
- [سٹی آف برامپٹن - کیا بند کر دیا گیا ہے اور کیا کھلا ہے](#)
- [کووڈ-19 کی علامات](#)
- [کووڈ-19 کی ویکسین](#)
- [برامپٹن میں ٹیسٹنگ کی سہولت](#)
- [خود کو انسولیٹ کیسے کریں](#)
- [کووڈ-19 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں](#)
- [بیل میں کووڈ-19 کے کیسز](#)



30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca